


أنواع الإسم (اسم کی اقسام)


Types of Noun

ابتدائی طور پر کسی بھی اسم کے بارے میں عربی گرامر کے قواعد کے مطابق چار لحاظ سے معلومات حاصل کی جاتی ہے۔
مندرجہ ذیل چار باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اسم کی باقی لحاظ سے تقسیم آگے پڑھیں گے ان شاء اللہ

According to the rules of Arabic grammar, to begin with, knowledge of four aspects of a noun is acquired. One should know the following four things. The types of noun by other considerations will be dealt with later, inshaaAllah



Lesson 1

**الإِسْمُ النَّكِرَةُ (غیر معین اسم)**

Ism Nakirah (Indefinite Noun)

عربی میں "النَّكِرَةُ" کا معنی (غیر معین، عام) ہے۔

In Arabic mean indefinite.

اسم نکرہ ایسا اسم ہے جو غیر متعین شخص، چیز، یا جگہ کے لیے بولا جائے۔ اردو ترجمہ میں اسم نکرہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن سمجھنے کے لیے (کوئی، چند، کچھ یا ایک) کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔

Ism Nakirah is a noun which refers to unspecific person, thing or place. In Urdu translation we don't use any word to express Ism Nakirah. But for understanding some words (Koi, Kutch, Chand or Ek) are used.

لیکن عربی میں اسم نکرہ کی خاص پہچان تنوین (ْ َ ِ) ہے۔

In Arabic the specific sign is Tanween.

جس اسم کے آخری ہے۔ جس اسم کے آخری حرف پر تنوین ہو وہ اسم (النَّكِرَةُ) ہوگا۔

The noun which has Tanween on its last letter is Ism Nakirah.

الْمُنْكَرَةُ بِالتَّنْوِينِ

الإِسْمُ النَّكِرَةُ

(کوئی درخت)

شَجَرَةٌ

A tree

(کوئی بیچنے والا)

بَائِعٌ

A seller

(کوئی آدمی)

رَجُلٌ

A man

(کوئی کتاب)

كِتَابٌ

A book

الإِسْمُ الْمَعْرِفَةُ (معین / مخصوص اسم)

Ism Ma'rifah (Definite Noun)

عربی میں "المعرفة" کا معنی (معین، خاص) ہے۔

In Arabic from 'AlMa'rifah, mean definite.

اسم معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کے لیے بولا جائے۔ اردو میں اسم معرفہ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہم کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن سمجھنے کے لیے (معین یا خاص) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

Ism Ma'rifah is a noun which refers to specific person, thing or place. In Urdu translation we don't use any word to express Ism Ma'rifah. But for understanding the word Mua'iyar or Khas is used.

الْمُعْرِفَةُ بِاللَّامِ

الإِسْمُ الْمَعْرِفَةُ

(خاص درخت)

الشَّجَرَةُ

The tree

(خاص بیچنے والا)

الْبَائِعُ

The seller

(خاص آدمی)

الرَّجُلُ

The man


(خاص کتاب)

الْكِتَابُ

The book

(أَل) الف لام اور تنوین کبھی بھی اسم پر ایک ساتھ نہیں آسکتے۔ اگر (أَل) ہے تو تنوین نہیں ہوگی ایک حرکت ہوگی اور اگر تنوین ہے تو (أَل) نہیں ہوگا۔

The tanwīn is generally attached to a word that is indefinite. In this case, it is regarded as a particle that renders a noun indefinite.



نوٹ: یاد رہے کہ کچھ اسم جو تنوین کے ساتھ ہیں وہ نکرہ نہیں ہوتے معرفہ ہوتے ہیں مثلاً

Point to remember: Some nouns may have "tanween" still they are not indefinite e.g;

مُحَمَّدٌ ، خَالِدٌ ، يَاسِرٌ

کیونکہ یہ کے خاص مردوں نام ہیں اس لیے معرفہ ہیں۔

They are definite because they are proper nouns.